

9 مئی 2018

## سٹی کونسل نے برامپٹن کے لیے نئے جرات مندانہ تصور کی توثیق کر دی

برامپٹن، آن - کمیونٹی کو وابستہ رکھنے کے عمل کے نتیجے میں برامپٹن کے مستقبل کے لیے ایک نئے جرات مندانہ تصور کو عملی شکل دے دی گئی ہے۔ سٹی کونسل نے [برامپٹن ویژن 2040: لونگ دی موسیک](#) کی توثیق بروز پیر مورخہ 7 مئی کو منعقد ہونے والی اپنی اسپیشل کونسل میٹنگ میں کی ہے۔

اگلے 25 سال کے دوران برامپٹن کیسا ہو گا کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنے میں برامپٹن 2040 ویژن ایک ترغیبی دستاویز کا کردار ادا کرے گا۔ سات ترغیبی بیانات اس تصور کے بنیادی نکات میں شامل ہیں جو ماحول، آمدورفت، ملازمتوں، صحت، معاشرتی مسائل اور فنون و ثقافت کے شعبوں میں بہتری لانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اس میں ایسے 28 مخصوص عملی اقدامات بھی شامل ہیں جو ہر تصور کو عملی جامہ پہنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

میئر لینڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "برامپٹن میں بڑے شاندار کام ہو رہے ہیں مثلاً ریٹرسن یونیورسٹی کے نئے کیمپس کی تعمیر، ہمارے نئے الیکٹرک بس پائیلٹ پروجیکٹ کا قیام اور ہمارا ابھرتا ہوا ثقافتی منظر نامہ جس کے ذریعے ایک عظیم الشان نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "برامپٹن ویژن 2040 کو ایسی جرات مندانہ ترغیبات، پرجدت طریقے اور چیلنج کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے جو ہمارے شہر کی بڑی اور منفرد سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شاندار تغیر کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے مگر اس کے باوجود ہمارے رہائشیوں نے اس عوامی تصور کو پذیرائی سے نوازا ہے۔"

اس تصور کی جانب سال 2017 کے وسط میں اس وقت رغبت شروع ہوئی جب برامپٹن کو مستقبل میں ایک مربوط، وابستہ اور پرجدت شہر بنانے کے لیے کونسل نے ایک جامع رہنماء دستاویز کی تیاری کے عمل کا آغاز کیا۔ سٹی نے شہری منصوبے بندی کے شعبے میں بین الاقوامی شہرت کے حامل منصوبہ کار لیری بیزلے کی خدمات حاصل کیں، جن کے پاس بین الاقوامی سطح پر تصوراتی شہری ماڈل ترتیب دینے کا پہلے سے تجربہ موجود تھا۔ اس کو پوری کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بات چیت کے بعد حتمی شکل دی گئی۔ سٹی کی جانب سے عوامی وابستگی کا یہ سب سے بڑا پروگرام تھا جس میں ایک پرجدت آن لائن پلیٹ فارم کے علاوہ باہر جا کر معلومات اکٹھی کرنے والی ایک پرجزیم ٹیم کی مدد بھی حاصل کی گئی، جس نے شہر بھر میں خود جا کر ہر عمر، طبقہ فکر اور مختلف تجربات کے حامل لوگوں کی رائے حاصل کی۔

اینٹونیتا منیچیلو، ویژن ترغیبات پروجیکٹ منیجر نے کہا کہ "برامپٹن 2040 ویژن کو عوامی رائے کے عین مطابق بنایا گیا ہے اور اس میں عالمی سطح کی بہترین کاوشیں شامل ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "یہ سٹی آف برامپٹن کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے مستقبل کے تصور کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم ان ہزاروں رہائشیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے چند مہینوں کے دوران اس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اب ہم اس کے اگلے مرحلے کے منتظر ہیں۔"

اب ہمارا عملہ نفاذ کے جامع منصوبہ پر عمل درآمد کا آغاز کرے گا جس میں ترجیحات بھی شامل ہیں اور بجٹ کی تخصیص، پالیسیوں میں تبدیلیوں اور شراکت کے نئے مواقع جیسے معاملات پر مزید گہرائی میں جا کر کام کیا جائے گا۔ نفاذ کی رپورٹ کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے چند ماہ کے دوران کونسل میں پیش کر دی جائے گی۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرہن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654